



Ref: CL - 050 /13
Dated: March 13, 2013

Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.
6th Floor, Faysal House
Shahra-e-Faisal
Karachi-75530, Pakistan
www.js.com

The General Manager
The Karachi Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

UAN: +92 21 111 574 111
Dir: +92 21 3280 0130
Fax: +92 21 3280 0090

Subject: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the 21st Annual General Meeting of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. to be held on April 05, 2013 for circulation amongst your members.

The notice enclosed will be published in "THE NEWS" and "JANG" dated March 14, 2013.

Yours truly,

Naveed Khimani
Company Secretary



Jahangir Siddiqui & Co. Ltd.

NOTICE OF 21ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty First Annual General Meeting of Jahangir Siddiqui & Co. Ltd. (the "Company") will be held at Regent Plaza Hotel & Convention Centre, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi on Friday, April 05, 2013 at 11:30 a.m., to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited separate and consolidated financial statements of the Company for the eighteen month period ended December 31, 2012 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To approve and declare cash dividend @ 7.5% i.e. Rs. 0.75 per share for the eighteen month period ended December 31, 2012 as recommended by the Board of Directors of the Company.
3. To appoint Company's Auditors for the year ending December 31, 2013 and fix their remuneration.

By Order of the Board

Navved Khimani
Company Secretary

Karachi: March 14, 2013

NOTES

- (i) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from March 30, 2013 to April 05, 2013 (both days inclusive).
- (ii) Physical transfers and deposit requests under Central Depository System received at the close of business on March 29, 2013 by the Company's Registrar i.e. Technology Trade (Pvt.) Ltd., Dagma House, 241-C, Block-2, P.E.C.H.S., Karachi will be treated in time for the purpose of entitlement of dividend and attending the meeting.
- (iii) A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. A proxy must be a member of the Company.
- (iv) Proxies must be received at the Head Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting.
- (v) Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Faldsan Limited (CDC) and/or their proxies will have to follow the following guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending the Meeting

- a. In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original Passport along with Participant ID number and the account number at the time of attending the Meeting.
- b. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies

- a. In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements.
- b. The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- c. Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- e. In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- (vi) Shareholders are requested to notify immediately of any change in their address to the Company's Registrar.
- (vii) Statement under Regulation 4(2) of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulation, 2012 is being sent to the members, along with a copy of this notice.

Advice to Shareholders:

In pursuance with the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") Notification No. SRO 831(1)/2012 of July 5, 2012 in supersession of earlier Notification No. SRO 779(1)/2011 of August 18, 2011, SECP directed all listed companies to mention Computerized National Identity Card (CNIC) number / National Tax Numbers (NTN) of the registered members on the dividend warrant. The shareholders having physical shares are requested to immediately send a copy of their valid CNIC / Passport (for non resident only) to our Registrar Office, M/s. Technology Trade (Pvt) Ltd. Dagma House, 241-C, Block-2, P.E.C.H.S., Off Shahrah-e-Quaideen, Karachi for printing/inscription on dividend warrants.

In case of non-receipt of copy of valid CNIC (unless it has been provided earlier) and non-compliance of the above requirements the Company will be constrained to withhold dispatch of dividend warrants to such shareholders as per SECP SRO and directives.

The corporate entities are also advised to submit the NTN numbers to the above given address.



چھ ماہ کی سرحدی ایجنسی کی تشکیل

ایجنسیوں سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

یہ رہنمائی کے ساتھ دی جاتی ہے کہ چھ ماہ کی سرحدی ایجنسی کی تشکیل (مکمل) کے اجلاس سالانہ اجلاس عام سے پہلے کی سرحدی ایجنسیوں کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ 05 اپریل 2013 کو گجرات 11:30 بجے کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔

خصوصی کارروائی:

- (1) 31 دسمبر 2012 کو گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کی سرحدی ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (2) گجرات کے لیے 19 اپریل کو اجلاس کی تاریخ سے متعلقہ ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (3) 31 دسمبر 2013 کو گجرات کے لیے تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔

(مکمل)

ٹویٹ کے ذریعے
مکمل کی اطلاع

گجرات، 14 مارچ 2013

نوٹ:

- (1) ایجنسی کی تشکیل کے اجلاس کی تاریخ 30 مارچ 2013 سے 05 اپریل 2013 تک (دو دنوں تک) ہے۔
- (2) ایجنسیوں کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (3) ایجنسیوں کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (4) ایجنسیوں کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (5) ایجنسیوں کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔

الف۔ اجلاس میں شرکت کی اطلاع:

- (1) ایجنسیوں کی سرحدی اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (2) ایجنسیوں کی سرحدی اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (3) ایجنسیوں کی سرحدی اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (4) ایجنسیوں کی سرحدی اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (5) ایجنسیوں کی سرحدی اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (6) ایجنسیوں کی سرحدی اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (7) ایجنسیوں کی سرحدی اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔
- (8) ایجنسیوں کی سرحدی اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔

ٹویٹ کے ذریعے اطلاع:

ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔

ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔

ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔

ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایجنسیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کرنے والی ایجنسیوں کو مطلع کیا جا رہا ہے اور ان کے اجلاس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔